



**MIGRATION FORM**  
**SCHOOL TO SCHOOL / COLLEGE TO COLLEGE**  
**BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION KOHAT**  
**MIGRATION APPLICATION FORM (FROM ONE SCHOOL / COLLEGE TO ANOTHER)**  
PARTICULAR TO BE FILLED IN BY THE STUDENT

Ordinary Fee ..... Rs.300/-  
Urgent Fee ..... Rs.500/-

<p>1. Name of Applicant _____</p> <p>2. Father's Name _____</p> <p>3. Enrollment No. _____</p> <p>4. Registration No. _____</p> <p>5. Roll No. _____ in the SSC/Inter (A) Exam Part-I Year _____</p> <p>6. Name of College / School where studying (a) _____ Name of College / School to which Migration is sought _____ Name of the School/College last attended _____ (b) _____</p> <p>7. Reason for Migration with Proof duly attested by the HM/Principal.</p> <p>8. N.B.P / M.O Receipt No. _____ dated _____ under which fee of Rs. _____ deposited.</p> <p style="text-align: center;"><b>Signature of Guardian</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ضروری ہدایات و کوائف</b></p> <p>۱۔ سربراہان ادارہ فارم صرف اسی صورت میں تصدیق کریں جب دونوں اداروں کا درمیانی فاصلہ 16 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔</p> <p>۲۔ 30 دن کے اندر دومرتبہ مائیگريشن خلاف ضوابط ہے۔ تاریخ اجراء کے بعد مذکورہ مدت تک کوئی بھی فارم دستخط نہ کریں۔</p> <p>۳۔ مائیگريشن فارم پر صرف اسی ادارے کے سربراہ کا دستخط ہونا چاہیے جہاں درخواست دہندہ Enrol ہو چکا ہو۔ اور دوسرے ادارے کا سربراہ داخلہ تب دے جب امیدوار مائیگريشن سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔</p> <p>۴۔ سربراہ ادارہ دستخط کرنے سے قبل تمام اندراجات کی ذاتی طور پر تصدیق کرے۔</p> <p>۵۔ اگر امیدوار Detain ہو چکا/ چکی ہے یا اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہو چکی ہے تو سربراہ ادارہ لازمی طور پر اس کا ذکر کریں گے۔</p> <p>۶۔ امیدوار جہاں داخلے کا خواہاں ہے تو اس کے لئے اُس ادارے کے سربراہ سے NOC کا حصول لازمی ہے جو ذیل نمبر 2 پر درج ہے۔</p> <p>.....ستخط امیدوار..... .....مکمل نام..... .....سکول/کالج.....</p>
<p>1. Remarks</p> <p>Certified that the statements made by the student above are correct, and the other requirements from No.1 to 8 on column-I have been fulfilled.</p> <p style="text-align: center;"><b>Seal and Signature of the Head of Institution from where the candidate wants to migrate</b></p> <p>Signature: _____</p> <p>Name: _____</p> <p>Seal: _____</p>	<p>2. Remarks</p> <p>I have no objection to this transfer and I shall admit the student to the class if the migration is sanctioned.</p> <p style="text-align: center;"><b>Seal and Signature of the Head of Institution to which the candidate wants to migrate</b></p> <p>Signature: _____</p> <p>Name: _____</p> <p>Seal: _____</p>
<p>Entries 1 to 5</p> <p style="text-align: center;">FOR OFFICE USE OF THE BOARD</p> <p style="text-align: center;">May be allowed <span style="float: right;">ALLOWED</span></p> <p>Mig. Asstt: _____ / Reg. Asstt: _____ Supdt: _____ ASG: _____</p>	
<p>ADDRESS (REGISTERED)</p> <p>Name: _____</p> <p>S/D of: _____</p> <p>Village: _____</p> <p>District: _____</p>	<p>Rs. _____ have been credited to the Board through NBP/MO vide S.No. _____ on _____</p> <p style="text-align: center;">Verification Assistant</p>

**UNDER OBJECTION**